

23.2.2016

Counsel for the appellant, Mr. Farhaj Sikandar, GP with Mst. Shazia Nawaz, SDEO for the official respondents and counsel for private respondent No. 8 present. Representative of the respondents submitted that one person would be entitled to receive salary on the post. Written reply of private respondent No. 8 received, however, representative of official respondents requested for further time. To come up for written reply of official respondents and further proceedings on 29.3.16 at Camp Court D.I.Khan.



MEMBER


Camp Court, D.I.Khan

28.03.2016

Counsel for the appellant, Mr. Farhaj Sikandar, GP for official respondents and counsel for private respondent No.8 present. Learned counsel for the appellant moved an application for withdrawal of the instant appeal which is placed on file. Learned counsel for the appellant submitted that since the appellant has been compensated therefore he does not want to proceed this appeal which may be dismissed as withdrawn. Dismissed as withdrawn. File be consigned to the record.

Announced.
28.03.2016


Member


MEMBER
Camp Court D.I Khan

469/15

26.01.2016

Counsel for the appellant, Mr. Farhaj Sikandar, GP with Mst. Azra Bibi, DEO (F) D.I.Khan for the official respondents, counsel for private respondent No. 8 present and wakalatnama also present on file. SDEO (F) D.I.Khan is on school visit therefore, unable to attend the Tribunal to-day. On the other hand it has been stressed by the learned counsel for the appellant that despite order by the DEO the SDEO is not paying salary to the appellant. Notice be issued to SDEO (F) D.I.Khan as to why her own salary may not be attached for such non-compliance. In the meanwhile it was also stated by the DEO (F) that the matter may be kept pending for a while as promotions are going on in the department and hopefully both the issues of transfer as well as salary of the appellant and private respondent No. 8 may be resolved. Being reasonable contention, the matter is adjourned for the next date.

The learned counsel for the appellant, ^{also} submitted that the appellant was transferred to GGPS Islamia Colony against the post of private respondent No.8. That the said order was revisited vide impugned order dated 26.05.2014 without observing the tenure policy. It was further submitted that the appellant is regularly working since February, 2015 and she has not relinquished charge to private respondent No.8. It was further submitted that the impugned order is the result of political interference. Points raised need consideration. The appeal is admitted for regular hearing subject to all legal objections. The appellant is directed to deposit security and process fee within 10 days. To come up for progress report and written reply on 23.2.2016 at camp court, D.I.Khan. In the meanwhile status quo be maintained.

Appellant Deposited
Security & Process Fee


MEMBER

Camp Court, D.I.Khan

23.11.2015

Counsel for the appellant present. Mr. Farhaj Sikandar, GP with Mst. Azra Bibi (respondent No. 5 and Mst. Shazia (respondent No. 6) present. Respondent No. 8 through counsel present. Respondents No. 5 & 6 requested that they may be given some time to correct the record and solve the issue of payment of salary to the civil servant deserving for the same. To come up for progress report/Preliminary hearing on 29-12-15 at camp court, D.I.Khan.

Mst. Azra Bibi


MEMBER
Camp Court, D.I.Khan

29.12.2015

Since tour to D.I.Khan for the month of December, 2015 has been cancelled, therefore, case is adjourned to 26-1-2016 for the same.


MEMBER
Camp Court, D.I. Khan

08.07.2015

Clerk of counsel for the appellant present. Learned counsel for the appellant is not in attendance. Requested for adjournment. To come up for preliminary hearing on 27.7.2015 at Camp Court D.I.Khan as the case pertains to the territorial limits of D.I.Khan Division.


Member

27.07.2015

Counsel for the appellant present. Pre-admission notice be issued to the respondents as well as learned GP. To come up for preliminary hearing on 24-08-2015 at camp court, D.I.Khan.


MEMBER
Camp court, D.I.Khan

26.10.2015

Counsel for the appellant, Mr. Farhaj Sikandar, GP for the official respondents and Mr. Jehanzeb Chughtai, Advocate/counsel for respondent No. 8 present. Fresh notices be issued to respondents No. 6 & 7. Case to come up for preliminary hearing at camp court, D.I.Khan on 26-11-15


MEMBER
Camp Court, D.I.Khan


28.05.2015

None for the appellant present. Notice to counsel for the appellant be issued for preliminary hearing at camp court D.I. Khan for 27.07.2015 as the matter pertains to territorial limits of D.I.Khan.


Chairman


16.06.2015

Agent of counsel for the appellant present. Requested for adjournment as counsel for the appellant is not available today. To come up for preliminary hearing on 30.6.2015.


Member

23.06.2015



Counsel for the appellant present and requested for adjournment. Requested accepted. To come up for preliminary hearing on 08.7.2015 before S.B.


Member

Form- A
FORM OF ORDER SHEET

Court of _____

Case No. 469 / 2015

S.No.	Date of order Proceedings	Order or other proceedings with signature of judge or Magistrate
1	2	3
1	21.05.2015	<p>The appeal of Mst. Farah Naz presented today by Mr. S.Shahid Sherazi Advocate, may be entered in the Institution register and put up to the Worthy Chairman for proper order.</p> <p style="text-align: right;"> REGISTRAR</p> <p>This case is entrusted to S. Bench for preliminary hearing to be put up thereon <u>28-5-2015</u></p> <p style="text-align: right;"> CHAIRMAN</p>

BEFORE THE HON'BLE KP SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR

Sr. App: No. 469 of 2015

Mst; Farah Naz.....Petitioner

VERSUS

Government of KPK & others.....Respondents

I N D E X

S. No.	Description of documents	Annexes	Pages
1.	Wakalatnama Appeal		1-4
2.	Affidavit		5
3.	Addresses of Parties		6
4.	Copy of order Dated: 26-02-2014	A	7
5.	Copies of order dated; 30-08-2014 and charge report.	B & C	8-9
6.	Copy of order dated; 26-05-2014.	D	10
7.	Copies of applications.	E, F, G & H	11-14
8.	Copy of Impugned order.	I	15
9.	Copy of news clips	J & J/3	16-19
10.	Copy of "Departmental Appeal"	K	20
11.	Copy of order dated: 12-09-2015 18-04-2015	L	21
12.	Copy of Show Cause Notice	M	22-23
13.	Status Quo Application		24
14.	Wakalatnama		

Petitioner
through
Farah Naz Begum
Shahid Sherazi
S. Shahid Sherazi

&
W. Wasim Awan
Muhamad Wasim Awan
Advocates, High Court
Mastan Zaidi Hall,
Distt: Bar, D.I.Khan
Cell: 0333-9962514

BEFORE THE HON'BLE KP SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR

Sr. App: No. 469 of 2015

Mst: Farah Naz W/O Syed Ijaz Hussain Shah, Head Mistress GGPS Islamia Colony, D.I.Khan R/O Molana Shoaib Street Eidgah Kalan, Teh: & Distt: D.I.Khan.....Petitioner

VERSUS

**K.P. Province
Service Tribunal**
Diary No. 527
Dated 21-5-2015

1. Govt: of KPK through Secretary Education, Peshawar.
2. Director Education (E&SE) KPK, Peshawar.
3. Deputy Director (E&SE) KPK, Peshawar.
4. Executive District Officer, (E&SE), D.I.Khan.
5. District Education Officer (Female), (E&SE), D.I.Khan.
6. Mst: Shazia Nawaz SDEO, (E&SE), D.I.Khan.
7. Mst: Samina Shehnaz, ASDEO, (E&SE), D.I.Khan.
8. Mst: Nasreen Akhtar, R/O Usman Ghani Street, GGPS Islamia Colony, D.I.Khan.....^(PSHT) Respondents.

**APPEAL U/S 4 SERVICE TRIBUNAL ACT 1974
AGAINST THE ORDER OF RESPONDENT NO.5
WHEREBY HE TRANSFERRED THE APPELLANT
VIDE OFFICE ORDER Endst; No.4851-54,
DATED: 26-05-2014, BE DECLARED AS ILLEGAL,
AGAINST THE SPIRIT OF LAW, FAKE, AND
BOGUS, THEREFORE IN EFFECTIVE UPON THE
RIGHTS OF THE PETITIONER AND
RESPONDENT NO.2 WHEREBY HE DID NOT
RESPOND TO THE DEPARTMENTAL OF
APPELLANT.**

Filed to
Registrar
21/5/15

Shah

Respectfully Sheweth:

1. That the appellant is a school teacher and performing her duties with entire satisfaction of her high ups as well as students since so many years.
2. That the appellant has been transferred to Govt: Girls Primary School Islamia Colony D.I.Khan vide Endst No. 1691-93 Dated: 26-02-2014 by replacing respondent No. 08 (Copy of order Dated: 26-02-2014 is attached as annexure "A").
3. That the charge of PSHT (Primary School Head Teacher) has been handed over to the appellant in Govt: Girls Primary School Islamia Colony D.I.Khan vide order: 455-57, dated; 30-08-2014 whereas she took over the charge on dated; 19-09-2014 (Copies of order dated; 30-08-2014 and charge report are attached as annexure "B & C" respectively).
4. That the respondent No.08 presented her transferred order in which she has been transferred back to Govt: Girls Primary School Islamia Colony D.I.Khan against vacant post vide Endst No.4851-54, dated; 26-05-2014 (Copy of order dated; 26-05-2014 is attached as annexure "D").
5. The appellant pointed out the matter through different applications before D.E.O (F) D.I.Khan, that respondent No.08 creating hurdles in the performance of other teachers by not following the orders of your good office (Copies of applications are attached as annexure "E, F, G & H").
6. That on the objection of high ups about the adjustment/ posting of two teachers having same scale i.e. BPS-15 in the same school, the respondent No.08 again presented a fake transfer order in which Endst No.1691-93 Dated:26-02-2014 was mentioned as "**cancelled**" but interestingly, the Endst: Number and date mentioned on the impugned order having same number and date which are mentioned

S. Khan

in Annexure "D". (Copy of Impugned order is attached as annexure "I").

7. That the malpractice of respondents has been published in a news paper "Daily Aitadal" dated; 24-01-2015 (Copy of news clip is attached as annexure "J")
8. That the appellant has presented "Departmental Appeal" on dated:29-01-2015, in which she claimed relief against the fake, bogus and illegal order. Copy of "Departmental Appeal" is attached as annexure "K".
9. That respondent No.5 conducted the inquiry regarding the matter in issue vide inquiry No.1587-88, dated:06-03-2015.
10. That the respondent No.5 again issued another transfer order having Endst:2468-70, dated:18-04-2015 without deciding the fate of impugned order. (Copy of order dated:18-04-2015 is attached as annexure "L".
11. That respondent No.5 issued "Show Cause Notice" to appellant bearing No.2814.DEO (F), Dated:08-05-2015. Copy of Show Cause Notice dated:08-05-2015 is attached as annexure "M".
12. That petitioner having no other adequate or efficacious remedy is constrained to move this Hon'ble Court for the following amongst other grounds;

GROUND:

- A. That admittedly the respondents has jurisdiction to make postings/ transfers of teachers but it is the clear verdict of superior courts that the posting/ transfers should be made after notice.

Handwritten signature/initials

- B.** That respondent No.8 performed her duties up to 09 years at G.G.P.S Islamia Colony D.I.Khan. Whereas vide order dated: 26-02-2014 she has been transferred but just after 03 months, she returned to her favorite station by grace of respondents No. 5 to 7.
- C.** That the appellant pointed out the irregularity of impugned order but the respondents did not take any action which speaks volume the blessings over respondent No.08.
- D.** That the appellant has been transferred twice in a year which is a serious violation of "posting & transfer policy of provincial Government".
- E.** That the impugned order has no legal footing, as the same even not available on the school's record.
- F.** That no notice whatsoever has been given to the appellant before passing the impugned order and thus the same is illegal and vide ab initio.
- G.** That appellant has been treated against the law and she has been deprived of equal protection of law.
- H.** That there are so many other grounds which will be taken at the time of arguments.

It is therefore prayed that by accepting this appeal the impugned order of respondent No.5 bearing Endst No.4851-54, dated; 26-05-2014 and subsequent orders having same purpose may please be declared as illegal, without lawful authority and without jurisdiction and thus in effective upon the rights of the petitioner.

Appellant *Farahnaz Begum*
 through *W. Sherazi*
S. Shahid Sherazi
 & *W. Sherazi*
Muhamad Wasim Awan,
 Advocates, D.I.Khan

BEFORE THE HON'BLE KP SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR

Sr. App: No. _____ of 2015

Mst; Farah Naz.....Petitioner

VERSUS

Government of KPK & others.....Respondents

AFFIDAVIT

I, **Mst: Farah Naz W/O Syed Ijaz Hussain Shah R/O Eidgah Teh: & Distt: D.I.Khan,** do hereby solemnly affirm that the contents of the accompanying appeal & application for interim injunctions are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed from this Hon'ble Court.


IDENTIFIED BY:

S. Sherazi

S. Shahid Sherazi
Advocate, D.I.Khan.

DEPONENT

Farah Naz Begum



6

BEFORE THE HON'BLE KP SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR

Sr. App: No. _____ of 2015

Mst; Farah Naz.....Petitioner

VERSUS

Government of KPK & others.....Respondents

ADDRESSES OF PARTIES

PETITIONER:

Mst; Farah Naz W/O Syed Ijaz Hussain Shah R/O Eidgah Teh: & Distt:
D.I.Khan.

RESPONDENTS:

1. Govt: of KPK through Secretary Education, Peshawar.
2. Director Education (E&SE) KPK, Peshawar.
3. Deputy Director (E&SE) KPK, Peshawar.
4. Executive District Officer, (E&SE), D.I.Khan.
5. District Education Officer, (E&SE), D.I.Khan.
6. Mst: Shazia Nawaz SDEO, (E&SE), D.I.Khan.
7. Mst: Samina Shehnaz, ASDEO, (E&SE), D.I.Khan.
8. Mst: Nasreen Akhtar, R/O Usman Ghani Street, GGPS Islamia Colony, D.I.Khan.

Farah Naz Begum

Appellant
through
S. Shazia Sherazi

&
Muhamad Wasim Awan
Advocates, D.I.Khan

ANNX = A (7)

OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER (FEMALE) DERA ISMAIL KHAN

ADJUSTMENT ORDER:

The following Transferred/ adjustment is hereby made in the interest of public service with immediate effect.

S.NO.	NAME & DESIGNATION	FROM	TO	REMARKS
1	S. Farha Naz	GGPS Zile Husnain	GGPS Islamia Colony	Voice S/No.2
2	Nasreen Akhter	GGPS Islamia Colony	GGPS Zil e Husnain	Against V/Post

- Note:-
- Charge report should be sent to all concerned.
 - NO TA/DA is allowed.

Sd/-

DISTRICT EDUCATION OFFICER
(FEMALE) DIKHAN

Dated 26-2-2014

Endst:No 1691-93

Copy to the:-

- District Accounts Officer DIKhan.
- Sub Divl Education Officer(Female) DIKhan
- Official concerned.

DISTRICT EDUCATION OFFICER
(FEMALE) DIKHAN

ATTESTED
Attested
Husain

ANNX-B (8)

OFFICE OF THE SUB DIVISIONAL EDUCATION OFFICER (FEMALE) D.I.KHAN

ORDER:

Mst; Farah Naz HPST Govt; Girls Primary School Islamia Colony DIKhan, vide D.E.O (Female) DIKhan Endst; No. 1691-93 dated 26/02/2014. Handed over the charge of School as a PSHT with immediate effect.

Note:

1. Charge Report should be sent to all concerned.
2. No. TA/DA is allowed.

Sd/-
SUB DIVL; EDUCATION OFFICER
(FEMALE) D.I.KHAN

Endst. No. 455-57 Dated: DIKhan the 30/8 /2014

Copy for information to the:-

1. The Irfana Shaheen Headmistress GGPS Islamia Colony DIKhan.
2. A.S.D.O concerned.
3. Official concerned.

Sd/-
SUB DIVL; EDUCATION OFFICER
(FEMALE) D.I.KHAN

30, 8, 2014

ATTESTED

Attested

Attested

OFFICE OF THE SUB DIVL: EDUCATION OFFICER (FEMALE) D.I.KHAN

No. _____ /

Dated DIKhan the 01-01-2015

To;

The District Education Officer,
(Female) Dera Ismail Khan

Subject:

PAYMENT OF SALARY.

Memo:

Reference your No.9207 dated 21/12/2015.

It is submitted for your kind information that only one HPST B-15 in each Primary School according to Government Policy. One Mst: Nasreen Begum HPST B-15 Senior Mst is already working at GGPS Islamia Colony. Mst: Farah Naz already under transferred to GGPS Zil-e-Hasnain.

Therefore she is directed to took over charge in her school. Then her pay was released by this office.

Sa/-
Sub Divl: Education Officer,
(Female) D.I.Khan

Endst: No 21 /

Copy of the above is forwarded for information and necessary action to the :-

1. Govt : Pleader Service Tribunal Peshawar Camp at D.I.Khan.

J. J. J.
Sub Divl: Education Officer,
(Female) D.I.Khan

چارج ریپورٹ

معاہدہ نازی بیدگ
معاہدہ عرفانہ شاہین

سے جو کہ آج مورخہ 2014-9-19 قبل اعداد و پیر بموجب حکم نمبری 93-1691

2014-9-27 آئندہ از دفتر (F) D.E.O


تبدیل ہوا ہے گورنمنٹ (نئی) اسکول اسلام آباد کالج میں پوسٹ کا چارج سنبھال لیا ہے۔ BPS-15

نظام ڈیپوٹیشن (مقابلہ) گورنمنٹ (نئی) اسکول اسلام آباد کالج میں ڈیپوٹیشن (مقابلہ) خان

مورخہ 2014-9-19

Farahnaq Beech چارج گرنڈ

چارج دہندہ (مقابلہ)



ATTESTED
Attested

Attested

حصیل اشیاء و ابقایا (بذریعہ چارج و بندہ)

نمبر شمار	نام اشیاء	توراد اشیاء	کل قیمت	بوسیدہ	گشده	کیفیت

مقام گورنمنٹ کالجز پوربھاری کلاں اسیسٹنٹ کمشنر کالوں
 چارج بندہ انٹرنیشنل اسکول
 نمبر 93-1691 مورخہ 24-9-19
 جناب عالی کے چارج ریپورٹ پرست، بخندمت عالیہ برائے ضروری کارروائی ارسال ہیں۔

ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ

رہنم کے ایجیکٹو ڈیپارٹمنٹ کے تمام نام اور جزئیات سرورک ایک عاشر آڈٹ پر پیش پر دستا ہے 0966-733981

10 Annex-D

OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER (FEMALE)

DERA ISMAIL KHAN

ORDER:

The following Teacher (Female) are hereby transferred / adjustment in the interest of public services with immediate effect.

S.No	Name & Designation	To	Remarks
1	Nasreen Akhtar PST	GGPS Nawab	GGPS Islamia Kaloni (AVT)

Resp No. 8

Note: Charge report should be submitted to No TA/DA is allowed.

Sd/-
District Education Officer
Female (DIKhan)

Enlist: No 485754
Copy to the:

the 26/05 2014

- 1. District Accountant
- 2. Head Teacher
- 3. Teacher Conc
- 4. SDEO (F) DIKI

[Signature]
District Education Officer
Female (DIKhan)

ATTESTED
Attested
[Signature]

خدمت حساب ڈسٹرکٹ انچارجمنٹ افیسر صاحب (س) ڈیپو اسلام آباد
حساب نمائندہ

مورد بیانہ ایشیا میں ہے کہ سٹانڈرڈ کے گورنمنٹ ٹریڈنگ کمپنی سڈکول
اسلام آباد میں BPS 15 کی کٹنگز (احقر) جس کا موجود ہے

12/2014 کی چیکنگ میں SDEO صاحب کے دفتر کے مطابق اسے
آڈیٹ کے ذریعے آگاہ کیا کہ آپ اپنے سڈکول جواب میں


حافضی کریں لیکن اس کی وہ SDEO صاحب کے حکم کو ماننے
میں انکاری ہے۔ اپنی طرف سے سڈکول آنا اور کسی بھی وقت
سڈکول سے چلے جانا ایسا معمول ہے جس کی وجہ سے سڈکول
کا ڈسٹریکشن خراب ہو رہا ہے۔

یہذا میری گزارش ہے کہ آپ اس کے ذریعے بکے احصا کے
نمبرین دفتر کو آگاہ کریں تاکہ سڈکول کے ماحول کو بہتر
بنایا جاسکے۔

آئی بی این گواشن ہوگی

- (1) آڈر فرم ناز سیکم
- (2) جہانگیری رپورٹ
- (3) جارج رپورٹ
- (4) آڈر نمبرین دفتر

G.G.P.S. District Islamabad
اسلام آباد



date: 11-12-2014

No (5)

AR
11-12-2014

ATTESTED
Attest

روٹ ایک آئی بی این نقل SDEO صاحب اور اس کے

خدمت جناب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ویلاب (M) ڈیپوٹیشن سے سید محمد عتیق خان
عنوان! آٹھ ماہ بعد ایک پوٹس کینسل آرڈر کا انکشاف

جناب عالی

موردیادہ التماس ہے کہ سائلہ 27²²/₂₁₄ کو گورنمنٹ گریڈ 17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100/101/102/103/104/105/106/107/108/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/148/149/150/151/152/153/154/155/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/171/172/173/174/175/176/177/178/179/180/181/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/201/202/203/204/205/206/207/208/209/210/211/212/213/214/215/216/217/218/219/220/221/222/223/224/225/226/227/228/229/230/231/232/233/234/235/236/237/238/239/240/241/242/243/244/245/246/247/248/249/250/251/252/253/254/255/256/257/258/259/260/261/262/263/264/265/266/267/268/269/270/271/272/273/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283/284/285/286/287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/297/298/299/300/301/302/303/304/305/306/307/308/309/310/311/312/313/314/315/316/317/318/319/320/321/322/323/324/325/326/327/328/329/330/331/332/333/334/335/336/337/338/339/340/341/342/343/344/345/346/347/348/349/350/351/352/353/354/355/356/357/358/359/360/361/362/363/364/365/366/367/368/369/370/371/372/373/374/375/376/377/378/379/380/381/382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401/402/403/404/405/406/407/408/409/410/411/412/413/414/415/416/417/418/419/420/421/422/423/424/425/426/427/428/429/430/431/432/433/434/435/436/437/438/439/440/441/442/443/444/445/446/447/448/449/450/451/452/453/454/455/456/457/458/459/460/461/462/463/464/465/466/467/468/469/470/471/472/473/474/475/476/477/478/479/480/481/482/483/484/485/486/487/488/489/490/491/492/493/494/495/496/497/498/499/500/501/502/503/504/505/506/507/508/509/510/511/512/513/514/515/516/517/518/519/520/521/522/523/524/525/526/527/528/529/530/531/532/533/534/535/536/537/538/539/540/541/542/543/544/545/546/547/548/549/550/551/552/553/554/555/556/557/558/559/560/561/562/563/564/565/566/567/568/569/570/571/572/573/574/575/576/577/578/579/580/581/582/583/584/585/586/587/588/589/590/591/592/593/594/595/596/597/598/599/600/601/602/603/604/605/606/607/608/609/610/611/612/613/614/615/616/617/618/619/620/621/622/623/624/625/626/627/628/629/630/631/632/633/634/635/636/637/638/639/640/641/642/643/644/645/646/647/648/649/650/651/652/653/654/655/656/657/658/659/660/661/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672/673/674/675/676/677/678/679/680/681/682/683/684/685/686/687/688/689/690/691/692/693/694/695/696/697/698/699/700/701/702/703/704/705/706/707/708/709/710/711/712/713/714/715/716/717/718/719/720/721/722/723/724/725/726/727/728/729/730/731/732/733/734/735/736/737/738/739/740/741/742/743/744/745/746/747/748/749/750/751/752/753/754/755/756/757/758/759/760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771/772/773/774/775/776/777/778/779/780/781/782/783/784/785/786/787/788/789/790/791/792/793/794/795/796/797/798/799/800/801/802/803/804/805/806/807/808/809/810/811/812/813/814/815/816/817/818/819/820/821/822/823/824/825/826/827/828/829/830/831/832/833/834/835/836/837/838/839/840/841/842/843/844/845/846/847/848/849/850/851/852/853/854/855/856/857/858/859/860/861/862/863/864/865/866/867/868/869/870/871/872/873/874/875/876/877/878/879/880/881/882/883/884/885/886/887/888/889/890/891/892/893/894/895/896/897/898/899/900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000

سائلہ کی حاضری رپورٹ لف ہے

27²⁵/₂₄₄ کو نرسین اختر کا تبادلہ نواب سے 44PS

23²⁸/₂₁₄ کو عنبر خانہ شاہین BPS 15 نوبہ پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ویلاب اور ایک آفس آرڈر کی

تحت آرڈر نمبر 455-57 جو کہ 27²⁸/₂₁₄ کو جاری ہوا۔ بعد میں آرڈر لف ہے۔ 24
جسکے تحت دو سٹریٹس کا خارج سائلہ کو مل گیا۔ خارج رپورٹ لف ہے۔

3¹⁰/₂₁₄ کو SDEO منازہ فریدی نے سکول، گادرت کیا تو نرسین اختر کو
واپس اپنے سکول، نواب جانے کو کہا۔ 44PS

8¹¹/₂₁₄ کو ASDEO میں نرسین فریدی نے آرڈر لے لیا تو نرسین اختر کو واپس
اپنے سکول نواب جانے کو کہا۔

2¹²/₂₁₄ کو SDEO شاہین نے دونوں کے آرڈر آفس میں سکولوں جو کہ
محمد رمضان آرڈر قابل آفس لے گیا تو SDEO شاہین نے حکم دیا گیا کہ نرسین اختر
کی حاضری بند کی جائے کیونکہ اس وقت اسے پوٹس آرڈر کا کوئی وجود نہیں تھا۔

P.T.O

ATTESTED
Attested

Attested

6¹²/₂₁₄ کو میڈنگ میں SDEO صاحب نے سختی سے حکم دیا کہ لٹریچر
 اپنے سکول نواب دالپس جانے دے۔ پھر اسکی تنخواہ بند کی جائے گی۔ آرڈر
 کے ذریعے یہ بیفیکر لٹریچر کو کیا
 حافظہ بند پیر جانے کے بعد سکول سے غائب پیرنا اور اپنی مرضی سے آنا جانا
 اسکا معمول بن گیا۔ سنا کہ اب ایک درخواست کے ذریعے یہ شکایت SDEO
 اور آپ کو دیں۔ دو دنوں درخواستیں لے لی ہیں۔


6⁰⁵/₂₁₅ کو SDEO صاحب نے میڈنگ بلالی۔ اور ایک یوگس مسئلہ کے حوالے کیا
 جو کہ 27⁰⁵/₂₁₄ AVP کی جگہ صرف مسئلہ کی لٹریچر آرڈر کا نمبر درج ہے آرڈر
 اس آرڈر کو دیکھو مسئلہ کے ساتھ موجود تھا۔ بعد میں دنگ رہ گئی، اور مسئلہ
 کو دھکی دیا گئی کہ بیمار سے اسکی جاری کردہ آرڈر کو آگے ماننا ہر اس کا
 جناب عالی! اب میں گزارش ہے۔ کہ فی الفور 27⁰⁵/₂₁₄ ایک ہی تاریخ کا آرڈر
 آرڈر جو کہ آٹھ ماہ بعد منظور کیا گیا۔ جسکی کوئی تالوئی حیثیت نہیں ہے
 جو کہ صرف SDEO صاحب نے جاری اور ASDO میں نمٹنے صاحب نے رشوت لیکر
 یہ کام کیا ہے۔ کینٹین کا حوالہ

ایک ہی لٹریچر لٹریچر

العارفہ! بعد میں شرح نامہ سیکرٹری گورنمنٹ لٹریچر سیکرٹری سکول اسماعیل علی
 No - 7

date - 8-01-2015

copy to secretary edo. Peshawar.
 Distribution section Judge D.I. Khan.



- 1- سائلہ کا آرڈر
- 2- حاضری لٹریچر
- 3- AVP آرڈر
- 4- سائلہ کا نمبر لٹریچر آرڈر
- 5- جاری لٹریچر
- 6- آرڈر SDEO صاحب نے
- 7- آرڈر ASDO صاحب نے
- 8- درخواست بنا SDEO
- 9- درخواست بنا P.O
- 10- یوگس آرڈر 27⁰⁵/₂₁₄

محترم جناب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر صاحب (۲۱) ڈیرہ اسماعیل خان
ANNA-6 (13) جناب عالی

موربانہ التماس ہے کہ مسائل کے متعلق اسکاٹلینڈ کمالی میں
BPS 15 کی سہولتیں اختیار تاحال موجود ہیں
اسکی حافضی سکول میں نہ پورے کیریئر اپنی مرضی سے سکول آنا جانا
اسکا معمول ہے۔ جو کہ ڈسٹریکٹ اور سیکرٹری کے لحاظ سے انتہائی
خطرناک ہے۔

بچے جعفر دو درجہ امیسی $11 \frac{12}{2.14}$ اور $8 \frac{0}{2.15}$ کو جوٹس اور
غیر قانونی آرڈر ملنے پر ہی نہیں۔ تاحال غیر قانونی آرڈر اور
سہولتیں اختیار کے خلاف SDEO میں شہادیت ملے اور ASDEO میں شہادت
میں کون مار ڈالی ہیں کی۔ بلکہ مسائل کو میٹنگ میں خطرناک نتائج کی حقیقت
دیں جس سے مسائل بہت پریشان ہے
آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ سہولتیں اختیار کو دائرہ اپنا سکول بھیج
دیا جائے۔ تاکہ سکول کا ماحول بہتر اور ڈسٹریکٹ برقرار رہے
اپنی عین گزارش برقی

نوٹ:
مکمل نام و درجہ
24/11/2015

العارضہ: فریح نازیم SPHT
676PS اسلام آباد

جعید
Parulwar
Deer



date - 24-01-2015

D- No 8

ATTESTED
Attested
Attest

Per
24/11/2015

خدمت جناب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر صاحب M/F ڈیپارٹمنٹ/مکمل خان

ANNA-H

14

جناب عالی

موردبانہ التماس ہے کہ مسئلہ کی نمبر 54 سال اردو نمبر 28 سال سے ایجوکیشن میں پمپر کے فرائض منصبی انجام دے رہی ہیں۔ اور آجکل مسئلہ گورنمنٹ گیسز میرٹھری سکول میں بعد پمپر کے عید کے پرائز ہے۔ مسئلہ نے سنہ 11 12 2014 اور 8 2015 اور 24 2015 کو دی ہیں۔ اس پر کوئی انٹوالری درخواستیں فورسز 11 12 2014 اور 8 2015 اور 24 2015 کو دی ہیں۔ اس پر کوئی انٹوالری نہیں ہوئی۔

جناب عالی 22 2015 کو جانک جج نوبل SDEO میں شذایہ نواز صاحبہ سکول آئیں اور مسئلہ کو کیا کہ جو درخواستیں آپ نے DEO صاحب کو دیں اسکا مزہ حکمانے کیے آئی ہوں۔ جانک میرے ہاتھ سے حاضری درجین اور سکول کا ایم ریکارڈ داخل و خارج لے لیا، اور نہایت ہی پیسودہ زبان استعمال کی دھمکیاں دیں اور مجھے لمزور ہونے سے حلالا نا شروع کر دیا جس سے سکول کی بھیاں بھی لڑنے لگیں۔ SDEO شذایہ نواز صاحبہ کا یہ رویہ اس جینر کا منہ بولنا ثبوت ہے کہ اس کا یہ رویہ تعصبانہ اور جانبدارانہ ہے۔ کیونکہ مسئلہ نے بعد پمپر کے عید کے پرائز میون کے بعد سکول کی لبرارٹ، صفائی، پرائز کی اور سیکورٹی کے انتظامات پر پمپر پر توجہ دی، جناب عالی! آپ سے گزارش ہے کہ SDEO شذایہ نواز صاحبہ کی بات کی انٹوالری کیوں کہ بقول اسکے کہ میں سب کو DEO صاحب کے ٹیکے پر کر رہی ہیں کیونکہ اس کے پاس آفس سے جاری کردہ کوئی آرڈر نہیں ہے۔ سنہ 11 12 2014 اور 8 2015 اور 24 2015 میں نکل جیسے سے نواب اور نواب سے ایسلا ایدہ کا لوی آنا اور 8 ماہ بعد پمپر آرڈر کا اٹلنا مینا وشن اور ثبوت کا منہ بولنا ثبوت ہے۔ نیز اسکی انٹوالری کی جائے جبکہ سنہ 11 12 2014 اور 8 2015 اور 24 2015 میں نکل جیسے سے نواب اور نواب سے ایسلا ایدہ کا لوی آنا اور 8 ماہ بعد پمپر آرڈر کا اٹلنا مینا وشن اور ثبوت کا منہ بولنا ثبوت ہے۔

العارضہ: بعد پمپر عین فرج نازیم گورنمنٹ گیسز میرٹھری سکول اسلام آباد

D.No. 10
Date: 07/02/15

ATTESTED

Farahana Begum
P. B. Begum
Head & Address
D. Khan

- 10 آرڈر میں ہے
- 10 گورنمنٹ آفیسر
- 10 آفیسر کنگ
- 10 سائنڈا ہاؤس
- 10 سائنڈا ہاؤس
- 10 سائنڈا ہاؤس
- 10 سائنڈا ہاؤس
- 10 سائنڈا ہاؤس

Atlan

ANNX-I (15) of ANX I



OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER (FEMALE),

DERA ISMAIL KHAN

ORDER:

The following Teacher (Female) teachers are transferred / adjustment in the interest of public service with immediate effect.

S.N	Name	From	To	Remarks
1	Nasreen Akhtar, PST	GGPS Nawab	GGPS Islamia Colony	The order No. of This office 1691-93 dated on 26-02-2014 is hereby cancelled.

Not: Charge report should be submitted to all concerned.

No T.A/D.A is allowed

Sd/-
DISTRICT EDUCATION OFFICER
Female (D.I.KHAN)

Endst; No. 4851-544

Dated 26/05/2014

Copy to the:

1. District Account Office D.I.Khan.
2. Head Teacher Concerned
3. Teacher Concerned
4. SDEO (F) Dikhan

ATTESTED
Attested

DISTRICT EDUCATION OFFICER
Female (D.I.KHAN)

Attested
Impugned Order

روزنامہ تازہ ترین خبروں کے حصول کیلئے FOLLOW DAILYAITADAL کو SEND 40404 کریں

اور ہم نے تم کو ایک ایسی جماعت بنا دیا ہے جو ہر پہلو سے "اعتدال" پر ہے (القرآن)

DAILY AITADAL D.I.KHAN



www.aitadal.com.pk

ڈیرہ اسماعیل خان

بیاد احمد نواز مغل

روزنامہ

اعتدال

چیف ایڈیٹر:

محمد عرفان مغل

Email: aitadal@gmail.com

Tel:-0998-713793 Fax:-0998-713794

شمارہ 161

جلد 9 صفحہ 4 ہفتہ 24 جنوری 2015ء 3 ربیع الثانی 1436ھ 13 ماگھ 2071ب

گرلز پرائمری سکول اسلامیہ کالونی کی 2 ہینڈ مسٹر لیس

ایک ہی تاریخ میں ہونے والے ایجنٹسٹ انسٹل آرڈرز نے آفس کی کارکردگی مشکوک کر دی

ڈیرہ اسماعیل خان (پبلسٹی رپورٹر) محمد نسیم آفس ہوسٹاؤ ایک ہی تاریخ میں جاری ہونے والے 2 (زبان) کی تالیف، گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول ایجنٹسٹ اور انسٹل آرڈرز نے آفس کی کارکردگی اسلامیہ کالونی کی 2 ہینڈ مسٹر لیس کا تازہ حال ملنے مشکوک کر دی، ماضی کرپشن اور (بیزنس نمبر 46 پر)

بقیہ 46 اعتدال

ڈی ای او ڈی آر ڈی نوٹس میں تفصیلات کے مطابق محمد نسیم آفس (بی سی) کی جانب سے 6 فروری 2014 کو آرڈر نمبر 1691-93 کے تحت فریج ہانڈ پر پرائمری سکول میں حسین سے اسلامیہ کالونی سکول پیکہ سرین اختر کو اسلامیہ کالونی سکول سے علی حسین ڈرائیور کو بھیجے گئے بعد اسی آرڈر کی روٹی میں اس وقت سب ڈیوٹی ایجنٹسٹ آفس (زبان) تفصیل ڈیرہ نے 30 اگست کو آرڈر نمبر 455-57 کے تحت فریج ہانڈ کو IGGPS اسلامیہ کالونی کی ہینڈ نمبر کا خارج فریج ہانڈ کر دیا اس دوران منظر عام پر ایسے 2 مشکوک آرڈرز آگئے جنکی وجہ سے کئی سوالات نے جنم لے لینے لگے۔ مطابق 26 مئی کو آرڈر نمبر 54-4851 کے تحت سرین اختر کو گرلز پرائمری سکول نواب سے اسلامیہ کالونی ڈرائیور کو بھیجے گیا جسکی اس تاریخ اور اسی آرڈر نمبر کے تحت اسی نمبر پر آرڈر نمبر 1691-93 کو کینسل کر دیا گیا جسکی وجہ سے 26 مئی 2014 کو ایک ہی تاریخ ایک ہی نمبر اور ایک ہی زوائف پر جاری ہونے والے 2 آرڈرز نے اس کی کارکردگی مشکوک کر دی دوسری جانب اس وقت حکمانہ طور پر فریج ہانڈ ہینڈ نمبر کے نوٹس سرانجام دے رہی ہیں جسے بعد میں سونپنے ڈسٹرکٹ ایجنٹسٹ آفس محمد یونس سوانی و تحریری طور پر درخواست کی دی ہے کہ میں نے اس سکول میں بطور ہینڈ نمبر کا نوٹس سنبھالا ہوا ہے اور سرکاری طور پر آفس میں ہینڈ نمبر کا نام میرے نام سے درج ہے گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول اسلامیہ کالونی کی موجودہ ہینڈ نمبر فریج ہانڈ نے ڈسٹرکٹ ایجنٹسٹ آفس سے مطالبہ کیا ہے کہ اس نام راج کی انگریزی کرنے کیساتھ ساتھ دوسری ہینڈ نمبر کی جواب طلبی کی جائے جسکی عملہ اپنی کرپشن حکام بھی اس پر نوٹس نہیں دیاں ہرگز تفصیلات لینے کیلئے مختلف طرف رابطے کیے گئے مگر رابطہ ہوسکا۔

ATTESTED
Attested
At Han

دستور روزہ ترین خبروں کے حصول کیلئے FOLLOW DAILYAITADAL کو 40404 SEND کریں

اور ہم نے تم کو ایک ایسی جماعت بنا دیا ہے جو "ہر پہلو" سے "اعتدال" پر ہے (القرآن) ❁ ❁ ❁

DAILY AITADAL D.I.KHAN
 www.aitadal.com.pk

ABC CERTIFIED
 ڈیڑھ آسمانہ اہل خانہ

بیاد
 احمد رواز
 معش

اعتدال

چیت ایڈیٹرز:
 محمد عرفان معش

Email: aitadal@gmail.com | Tel: 0966-713793
 Fax: 0966-713794

جلد 9 شمارہ 9 فروری 2015ء، رجب الثانی 1436ھ، 29 ماہ 2071 ب 4 شمارہ 177

38 اعتدال

ہوئے 2 نومبر اسکول آزاد ہارے مستقل نمبر
 شاخ کی کسی جس پر معلوم ہوا ہے کہ لڑکی ڈاکٹر
 اسٹیشنٹ محمد عارف خان نے نوٹس لیتے ہوئے
 ڈسٹرکٹ ایکشن آفیسر (زنان) کو فونک کیا، ضابطہ
 سمیت جانکی کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر انگریزی
 مکمل کر لی جائے، یاد رہے کہ ٹیچر ایم اے اے
 (بی بی) کی جانب سے 26 فروری 2014 کو
 آزاد نمبر 93-1691 کے تحت فرج ناز کو ہارے
 اسکول عمل حسین سے اسلامیہ کالونی اسکول جیکس
 اختر کو اسلامیہ کالونی اسکول سے عمل حسین ٹیچر کو
 گیا جسے بعد ہی آزادی روڈ کی طرف سے اس وقت سب
 ڈپٹنٹ ایکشن آفیسر (زنان) تحصیل ایڈ نے
 30 اگست کو آزاد نمبر 57-455 کے تحت فرج ناز کو
 GGPS اسلامیہ کالونی کی ہیڈ ٹیچر کا جانچ کرنے
 کر دیا، اس دوران صدر عام پرائیویٹ 2 ٹیچر آؤٹ
 آگئے جس کی وجہ سے کئی سوالات نے جنم لے لئے
 مطابق 26 مئی کو آزاد نمبر 54-4851 کے تحت
 نمبر 93-1691 کو آزاد نمبر 54-4851 سے اسلامیہ
 کالونی ٹیچر کو دیا گیا جسے ایڈیشنل آزاد نمبر
 کے تحت ایڈیشنل آزاد نمبر 93-1691 کو مکمل
 کر دیا گیا جسی وجہ سے 26 مئی 2014 کو ایک ہی
 تاریخ، ایک ہی نمبر اور ایک ہی ڈرائنگ پر جاری
 ہوئے 2 آزادوں نے اسی کارڈ کی مطابقت
 کر دی، درجی جانب اس وقت گھنٹہ طوقہ فرج ناز
 ہیڈ ٹیچر کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں جسے بعد
 موصوف نے ڈسٹرکٹ ایکشن آفیسر کو ریپورٹس سوائی کو
 تحریری طور پر درخواست کی دی ہے کہ میں نے اس
 اسکول میں بطور ہیڈ ٹیچر کا جانچ سمیٹا ہوا ہے اور
 سرکاری طور پر اس میں ہیڈ ٹیچر کا نام میرے نام سے
 درج ہے، کو فرسٹ گرڈ پرائمری اسکول اسلامیہ کالونی کی
 موجود ہیڈ ٹیچر فرج ناز نے ڈسٹرکٹ ایکشن آفیسر
 سے مطالبہ کیا تھا کہ اس قلم رواج کی انگریزی کرنے
 کما حقہ ساتھ درجی ہیڈ ٹیچر کی حساب میں کی جائے
 جبکہ گلہ ان کی کرپشن حکام میں اس پر نوٹس لیا گیا ہے
 1 ستمبر 2014 کو شاخ ہونگوالی نمبر کی تفصیلات کے
 مطابق نوٹیفکیشن نمبر 93-8290 کے تحت 105 بی
 نیل ٹیچر کو آزاد نمبر 14 سے 15 مئی 2015 تک

ایک ہی اسکول کی لڑکیوں پر دو اسکولوں کے نام سے پڑھانے کا الزام

26 فروری 2014 کو آزاد نمبر 93-1691 کے تحت فرج ناز کو ہارے اسکول جیکس
 ایس ڈی ای (زنان) تحصیل ایڈ نے 30 اگست کو آزاد نمبر 57-455 کے تحت فرج ناز کو ہارے اسکول جیکس
 26 مئی کو آزاد نمبر 54-4851 کے تحت فرج ناز کو ہارے اسکول جیکس
 ڈیڑھ آسمانہ اہل خانہ (اسکالر) 24 فروری 2015 کو ہونگوالی
 ڈاکٹر ایکشن آفیسر نے ایڈیشنل آزاد نمبر GGPS اسلامیہ کالونی میں تفصیلات ہیڈ ٹیچر کے
 اسلامیہ کالونی اور 1 ستمبر 2014 کو GGPS سے نوٹس لینے کی جاوے۔ تفصیلات کے مطابق
 ایک ہی تاریخ میں جاری (پریہ نمبر 38)

UNRECORDED

Handwritten signature

نوٹیفکیشن جاری ہونے کے بعد نصف راجح تو بی بی
 تفصیلات سامنے آگئیں دیکھتے ہیں آپ کو میری
 نمبر 19 پر موجود ٹیچر کو فرسٹ گرڈ پرائمری اسکول
 انگریزی میں ایڈیشن کیا گیا، محمد ایڈیشن
 کیا گیا۔

ذی قسط ۱۹۷۱ء

ABC CERTIFIED Daily

روزنامہ **DARPAN** ڈی.کی.اچان

ڈیرہ اسماعیل خان

پتہ: 0966-730957
Reg: 1372

چیف ایڈیٹر: ایف.ایف.ایف. ایف. ایف. ایف.
ماہر اخبار نویس: ایف.ایف.ایف. ایف. ایف. ایف.

جلد نمبر: 08

شمارہ نمبر: 335

سوموار 16 فروری 2015ء صفحات 4 قیمت 6 روپے

(18)
Annex-52

18

محکمہ تعلیم اراکوں کا روزانہ صحیح تیار کیا گیا اور پیسہ خرچ کیا گیا

موجودہ افسران بلاوجہ دباؤ کے آگے بے بس نظر آتے ہیں یہاں جب ہے کہ آج جاہل اور دوپہ کو مشوقی کے آرڈرز جاری ہونا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ریاض سواتی جیسے فرض شناس اور ایماندار کی موجودگی پر سوالیہ نشان ہے

US DEO ٹی سیل شانیہ نواز کے جانبدارانہ رویے کے خلاف اعلیٰ سطحی اجرائی کرانی جائے جبکہ ایسی کرپشن نظام سے بھی مطالبہ ہے کہ وہ اس سلسلہ میں فوری مداخلت کریں

ڈیرہ اسماعیل خان (ٹی سیل رپورٹ) کی ایک اور اہم خبر ہے کہ وہ اس سلسلہ پر سرکاری نوکریٹ 20 ہزار روپے کی رقم سے ایک ایسی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس کا سربراہ ڈیرہ اسماعیل خان کے ایجوکیشن آفیسر ریاض سواتی ہیں۔ اس کمیٹی کے ذمہ داری ہے کہ وہ اس سلسلہ میں فوری مداخلت کریں اور اس کے خلاف ایسی کرپشن کو روکیں۔

ایجوکیشن آفیسر ریاض سواتی کے ذمہ داری ہے کہ وہ اس سلسلہ میں فوری مداخلت کریں اور اس کے خلاف ایسی کرپشن کو روکیں۔

ڈیرہ اسماعیل خان (ٹی سیل رپورٹ) کی ایک اور اہم خبر ہے کہ وہ اس سلسلہ پر سرکاری نوکریٹ 20 ہزار روپے کی رقم سے ایک ایسی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس کا سربراہ ڈیرہ اسماعیل خان کے ایجوکیشن آفیسر ریاض سواتی ہیں۔ اس کمیٹی کے ذمہ داری ہے کہ وہ اس سلسلہ میں فوری مداخلت کریں اور اس کے خلاف ایسی کرپشن کو روکیں۔

ڈیرہ اسماعیل خان (ٹی سیل رپورٹ) کی ایک اور اہم خبر ہے کہ وہ اس سلسلہ پر سرکاری نوکریٹ 20 ہزار روپے کی رقم سے ایک ایسی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس کا سربراہ ڈیرہ اسماعیل خان کے ایجوکیشن آفیسر ریاض سواتی ہیں۔ اس کمیٹی کے ذمہ داری ہے کہ وہ اس سلسلہ میں فوری مداخلت کریں اور اس کے خلاف ایسی کرپشن کو روکیں۔

ڈیرہ اسماعیل خان (ٹی سیل رپورٹ) کی ایک اور اہم خبر ہے کہ وہ اس سلسلہ پر سرکاری نوکریٹ 20 ہزار روپے کی رقم سے ایک ایسی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس کا سربراہ ڈیرہ اسماعیل خان کے ایجوکیشن آفیسر ریاض سواتی ہیں۔ اس کمیٹی کے ذمہ داری ہے کہ وہ اس سلسلہ میں فوری مداخلت کریں اور اس کے خلاف ایسی کرپشن کو روکیں۔

ATTESTED
Attest of
Khalid

ڈیرہ اسماعیل خان اور کوہاٹ سے بیک وقت شائع ہونے والا کثیر الاشاعت مستوقوی اخبار

Ph# 0966-733662 Daily Fax # 0966-733662

SANGAM NEWS
Dera Ismail Khan

روزنامہ

ڈیرہ اسماعیل خان

REGD No: 2777

سنگم نیوز

ایڈیٹر چیف

ایم راضی خسان

sangamnews2013@gmail.com

جلد نمبر: 2 سوموار 16 فروری 2015ء صفحات 4 قیمت 6 روپے شماره نمبر 337

گورنمنٹ ایف سی اسکول اور پرائمری سکولوں کی تعمیر کا مطالبہ جاری

ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ریاض سواتی کو تحریری طور پر درخواست دی ہے کہ میں بطور ہیڈ ٹیچر گورنمنٹ ایف سی سکول میں تعینات ہوں درخواست میں مطالبہ کیا گیا ہے ایسے سکول میں ایک ہیڈ ماسٹریں پر دوسری ہیڈ ماسٹریں تیار کرنا موجودہ سواتی حکومت اور سواتی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کے علاوہ موجودہ DEO ریاض سواتی کیلئے لکھ کر دیا ہے

تیسری ستمبر 47

ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ریاض سواتی سے درخواست کی گئی ہے کہ میں بطور ہیڈ ٹیچر گورنمنٹ ایف سی سکول میں تعینات ہوں درخواست میں مطالبہ کیا گیا ہے ایسے سکول میں ایک ہیڈ ماسٹریں پر دوسری ہیڈ ماسٹریں تیار کرنا موجودہ سواتی حکومت اور سواتی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کے علاوہ موجودہ DEO ریاض سواتی کیلئے لکھ کر دیا ہے

تعمیرات ایک ہی تاریخ میں ایڈمیشن اور سونپنے کے لئے ہیں۔

تعمیرات ایک ہی تاریخ میں ایڈمیشن اور سونپنے کے لئے ہیں۔

تعمیرات ایک ہی تاریخ میں ایڈمیشن اور سونپنے کے لئے ہیں۔

ATTESTED
Attested
Attested

خدمت جناب ڈائریکٹر سکولز کے بی کے شمارہ

جناب عالی

مؤدبانہ التماس ہے کہ سائلہ کی نمبر 54 سال سے اور عمر حد 28 سال

سے پٹنر کے فرائض سرانجام دے رہی ہے۔ آجکل سائلہ گورنمنٹ گریڈ سکول

سکول اسلامیہ کالونی میں عید پٹنر کے عہدے پر فائز ہے۔

سائلہ کے تین اختر کے ایک ہی تاریخ اور ایک ہی نمبر 5/26، 54-4851 کے

سائلے میں DE-OM/A صلب کو چار درخواستیں مورفہ 11/12، 8/10، 24/10 اور

7/13 کو دیں، جناب عالی، مورفہ 3/02 کو اجاڑنے کے بعد SDEO صلبہ سائلہ کے سکول

آئیں اور آئے ہی سائلہ سے حاضرہ درستی اور سکول کا ایس ریکارڈ داخل و خارج

ضمیرہ چھین لیا، اور بیسودہ زبان، چینیٹا جانا اور دھکیاں دینا شروع کر دیں،

اور سائلہ کو بیت زیادہ پریشور ڈالا، سائلہ نے سبب پوچھا تو SDEO صلبہ نے بتایا کہ جو

درخواستیں آپ نے DEO صلب کو دیں یہ اٹھا کر بدلے گئے۔

جبکہ سائلہ نے عید پٹنر کے عہدے پر آرڈر نمبر 57-455 مورفہ 8/02 کا چارج سنبھالا تو

سکول کی سبھاٹ، صفائی، پرورشانی، تعداد پر طمانے اور سیکورٹی کے انتظامات پر عبور

توجہ دی، سائلہ اپنی سرورس کے دوران بیت فحشی اور پٹنر ٹریننگ کے سلسلے میں

گورنمنٹ کے فرائض انجام دے چکی ہے۔

جناب عالی، آپ سے گزارش ہے کہ SDEO صلبہ کا مقصد اور جانبدارانہ رویہ اور گورنمنٹی

آئین آرڈر کے حیرت سے توجہ برہی سازش ہے۔ اسکی انٹو آٹری کیا جائے۔ اور تین اختر کا

8 ماہ بعد بولس اور عینت مانوی آرڈر کا منظر عام پر آنا اور تین ماہ میں کل حسین بنے نواب

اور نواب سے اسلامیہ کالونی بولس آرڈر سرانجام دیتے ہوئے سفارش ہے۔ جسکی انٹو آٹری کیا جائے

سائلہ کو اس سکول کی حاضرہ رجسٹر داخل و خارج دیکھنے والیں کیا جائے اور بولس آرڈر 54-4851 کو

فوری طور پر کینسل کیا جائے۔

آجکی مجلس نوابوں کی

عید پٹنر میں ناز بیگم گورنمنٹ گریڈ سکول اسلامیہ کالونی

date: 29-01-2015



Handwritten signature and the word 'ATTESTED' in a stamp.

(21)

OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER (FEMALE)

DERA ISMAIL KHAN

ANX-2

TRANSFER ORDER:-

The transfer of the following PSHT (Female) teachers are hereby Ordered in the school mentioned against each in the interest of public service with immediate effect.

S. No.	Snr. No	Date of Promotion as PSHT BPS 15	NAME & DESIGNATION	FROM	TO	Remarks
1	75	6-3-2013	Nasreen Akhter PSHT	Already Working at GGPS Islamia Colony DIKhan	She will work as usual	Being senior
	512	30-5-2013	S.FarahNaz PSHT	GGPS Islamia Colony DIKhan	GGPS Zile Hasnain DIKhan	Against vacant Post (Bring Junior)

- Note:- 1. Charge report should be sent to all concerned.
 2. NO TA/DA is allowed.

Sd/-
DISTRICT EDUCATION OFFICER
(FEMALE) DERA ISMAIL KHAN

Undst. No. 2468-70

Dated DIKhan the 18-04-2015

Copy to the:-

1. District Accounts Officer DIKhan.
2. SOI O Female DIKhan
3. Teacher Concerned

Attested
AR Nawaz

DISTRICT EDUCATION OFFICER
(FEMALE) DERA ISMAIL KHAN

OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL EDUCATION OFFICER (FEMALE) D.I. KHAN.

Undst. No: 427-301

Dated DIKhan the 20 /4/2015.

Copy to the:-

- 1). District Education Officer (F) DIKhan.
- 2). Headmaster GGPS, Islamia Colony is hereby directed to relieve the Mrs. Farha Naz & received all kind of record the School & submit charge report to the office.
- 3). Mrs. Farha Naz HPST is hereby directed to report at GGPS, Zile-e-Hasnain & submit charge report & arrival report to the office.
- 4). A.S.D.E.O. Circle.

Handwritten Signature
 SUB-DIVISIONAL EDUCATION OFFICER
(FEMALE) D.I. KHAN.
18/4/15



OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER (FEMALE)

DERA ISMAIL KHAN

No. 2814 DEO(F)

Dated DIKhan the 08-05-2015

To

The Sub-Divisional Education Officer
(Female) DIKhan S/Dyn DIKhan.

Subject: SHOW CAUSE NOTICE.

Memo,

Enclosed herewith please find show cause notice of Farha Naz, PSHT under

Transfer to GGPS Zile Hasnain with the direction to serve upon the same under
intimation to this office to proceed further in the matter.

TESTED

Attested

Arhan

DISTRICT EDUCATION OFFICER
(FEMALE) DERA ISMAIL KHAN

OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL EDUCATION OFFICER (FEMALE) D.I. KHAN.

Endst: No: 469-701

Dated DIKhan the 09-15/2015

Copy of the above is forwarded to the:-

- 1). Mst: Farah Naz PSHT GGPS, Islamia Colony under transfer GGPS, Zil-e-Hasnain is hereby directed to submit her reply within (3) days for onward submission to the quarter concerned for further n/action.
- 2). District Education Officer(F) DIKhan.


SUB-DIVISIONAL EDUCATION OFFICER
(Female) D.I. Khan.

OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER (FEMALE)
DERA ISMAIL KHAN

SHOW CAUSE NOTICE

I Muhammad Riaz Swati, District Education Officer (Female) DIKhan as competent authority under the Khyber Pakhtunkhwa Government servants (Efficiency & discipline) rules, 2011, do hereby serve you Mst. Farha Naz PSHT under transfer to GGPS, Zile Hasnain DIKhan follows:

- a) *As per report of SDEO (F) DIKhan you have refused to take relieving chit and not handed over charge properly to Mst. Nasreen Akhtar PSHT, GGPS, Islamia colony DIKhan as per report of SDEO (F) DIKhan vide her letter No.474 Dated.25.04.2015.*
- b) *There is no need of holding a formal enquiry in this case.*
- c) *In exercise of the power conferred by the Khyber Pakhtunkhawa, Govt: servant (Efficiency & Discipline) rules, 2011, the Competent Authority is hereby pleased to dispense with the conduct of a formal enquiry and serve you with the instant show cause notice regarding the charge of insubordination and misconduct with the direction to submit your defence in writing within 07 (Seven) days of the issue of this notice as to why the major penalty of rule 4 (b) of the said rules should not be imposed upon you and also intimate whether you desire to be heard in person.*
- d) *In case you failed to submit your reply within the stipulated period, it will be presumed that you have no defense to offer and ex-parte decision will be taken against you.*


COMPETENT AUTHORITY

Mst. Farha Naz PSHT, Under Transfer to
GGPS, Zile Hasnain DIKhan

ATTESTED

Attested

AR Khan

BEFORE THE HON'BLE KP SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR

Sr. App: No. _____ of 2015

Mst; Farah Naz.....Petitioner

VERSUS

Government of KPK & others.....Respondents

**APPLICATION FOR SUSPENSION OF THE
IMPUGNED ORDER DATED 26-05-2014 & 18-
04-2015.**

Respectfully Sheweth:


1. That the accompanying Appeal has been filed in this Hon'ble Tribunal which may be treated as part of this application.
2. That the operation of impugned orders will cause irreparable loss to appellant as she has been victimized on the basis of political pressure.
3. That it is just, fair as well as in the interest of justice to suspend the impugned orders.

It is therefore prayed that by accepting this application the impugned transfer order dated 26.05.2014 & 18-04-2015 may please be suspended.

Petitioner
through *Farah Naz Begi*
S. Shahid Sherazi
S. Shahid Sherazi

& *Muhamad Wasim Awan*
Muhamad Wasim Awan
Advocates, D.I.Khan

بعدالت کے پیسروں کے سہولت پسندوں



2 مخائب
فرحناز بیٹام گورنمنٹ آف KPK

موزخہ 21-05-2015
مقدمہ --- ایچ جی
دعویٰ ---
جرم ---

باعث تحریر آنک

مقدمہ مندرجہ عنوان بالا میں اپنی طرف سے واسطے پیروی و جواب دہی وکل کارروائی متعلقہ آئن مقام حسین اسماعیل خان کیلئے سید سجاد کبریٰ سید کبریٰ اور سید محمد مصطفیٰ مقرر کر کے اقرار کیا جاتا ہے۔ کہ صاحب موصوف کو مقدمہ کی کل کارروائی کا کامل اختیار ہوگا۔ نیز وکیل صاحب کو راضی نامہ کرنے و تقرر ثالثہ فیصلہ بر حلقہ دیئے جواب دہی اور اقبال دعویٰ اور بصورت ڈگری کرنے اجراء اور صولی چیک درو پیہا عرضی دعویٰ اور درخواست ہر قسم کی تصدیق زرائیں پر دستخط کرانے کا اختیار ہوگا۔ نیز صورت عدم پیروی یا ڈگری یکطرفہ یا ایچ جی کی برآمدگی اور منسوخی نیز دائر کرنے ایچ جی نگرانی و نظر ثانی و پیروی کرنے کا اختیار ہوگا۔ از بصورت ضرورت مقدمہ مذکور کے کل یا جزوی کارروائی کے واسطے اور وکیل یا مختار قانونی کو اپنے ہمراہ یا اپنے بجائے تقرر کا اختیار ہوگا۔ اور صاحب مقرر شدہ کو بھی وہی جملہ مذکورہ باختیارات حاصل ہوں گے اور اس کا ساختہ پرواختہ منظور قبول ہوگا۔ دوران مقدمہ میں جو خرچہ ہر جانبہ التوائے مقدمہ کے سبب سے ہوگا۔ کوئی تاریخ پیشی مقام دورہ پر ہو یا حد سے باہر ہو تو وکیل صاحب پابند ہوں گے۔ کہ پیروی مذکور کریں۔ لہذا وکالت نامہ لکھ دیا کہ سند ہے۔

المرقوم 21 ماہ مئی 20

بمقام ذمہ اسماعیل خان کے لئے منظور ہے۔

Accepted
AT Home

Farah naz (ایڈوکیٹ)

Farah naz Begum

ATC



OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER (FEMALE)
DERA ISMAIL KHAN

ADJUSTMENT ORDER:

Incompliance of the order of hönöurable Service Tribunal Peshawar camp Court at DIKhan No 469/15 Dated 26.01.2016. The following adjustment of PSHT are hereby ordered in the best interest of public service with immediate effect.

S. NO	NAME & DESIGNATION	FROM	TO	REMARK
1	MST: FARAH NAZ PSHT BPS - 15	GGPS ISLAMIA COLONY	GGPS ISLAMIA COLONY	Work as usual
2.	MST: NASREEN AKHTAR PSHT BPS - 15	GGPS ISLAMIA COLONY	GGPS ZIL - E- HASNAIN	VICE NO 3
3	MST: SHUGFTA NAHEED PSHT BPS - 15	GGPS ZIL - E- HASNAIN	GGPS KHOWAR	BACK TO HER PARENT SCHOOL

- Note: 1. Charge report should be sent to all concerned.
2. NO TA/DA is allowed.

[Handwritten signature]

Sd/-
DISTRICT EDUCATION OFFICER
(FEMALE)DERA ISMAIL KHAN

Endst: No 1927-30

Dated DIKhan the 22-02 /2016

Copy to the:

1. District Account Officer DIKhan
2. SDEO (F) DIKhan/Kulachi
3. Officials Concerned.
4. Govt: Pleader

[Handwritten signature]
DISTRICT EDUCATION OFFICER
(FEMALE)DERA ISMAIL KHAN

OFFICE OF THE SUB-DIVL: EDUCATION OFFICER (FEMALE) D.I. KHAN.

ASD (F) (C)
Endst: No: 347-48
Copy to the:-

Dated DIKhan the 11/3 /2016.

- 1-2). Headmistress GGPS, Eslamia Colony and Zil-e-Hasnain is hereby directed to compliance the order.
- 3). DEO(F)DIKhan.

[Handwritten signature]
SUB-DIVL: EDUCATION OFFICER
(FEMALE) D.I. KHAN.

Before the UP Service Tribunal, Dehra

Farah Naz vs Education Deptt.

Application for withdrawal
of titled appeal.

§ 28/2

Respectfully Shrooth:

1. That the titled appeal is fixed for today i.e. 28-03-2016.
2. That the grievances of appellant has been redressed and in this connection Enclst. No. 1927-30, dated: 22-02-2016 has been issued. (copy is attached).
3. That the proceeding on the titled appeal would be futile, hence the same may be permitted to withdraw.

It is therefore prayed that by accepting this application the titled appeal No. 469/2015 may please be withdrawn.

Dated: 28-03-2016

Appellant

Through

S. Shaukat Shwazi
Advocate.

Affidavit:

I, S. Shaukat Shwazi Advocate, as instructed by my client, do here by solemnly affirm & declare on oath that the contents of application are correct.

S. Shaukat Shwazi



OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER (FEMALE)
DERA ISMAIL KHAN

ADJUSTMENT ORDER:

Incompliance of the order of honourable Service Tribunal Peshawar camp Court at DIKhan No 459/15 Dated 26.01.2016. The following adjustment of PSHT are hereby ordered in the best interest of public service with immediate effect.

S. NO	NAME & DESIGNATION	FROM	TO	REMARK
1	MST: FARAH NAZ PSHT BPS - 15	GGPS ISLAMIA COLONY	GGPS ISLAMIA COLONY	Work as usual
2.	MST: NASREEN AKHTAR PSHT BPS - 15	GGPS ISLAMIA COLONY	GGPS ZIL - E- HASNAIN	VICE NO 3
3	MST: SHUGFTA NAREED PSHT BPS - 15	GGPS ZIL - E- HASNAIN	GGPS KHOWAR	BACK TO HER PARENT SCHOOL

- Note: 1. Charge report should be sent to all concerned.
2. NO TA/DA is allowed.


Sd/-
DISTRICT EDUCATION OFFICER
(FEMALE)DERA ISMAIL KHAN

Endst: No 1927-30

Dated DIKhan the 12-01-2016

Copy to the:

1. District Account Officer DIKhan
2. SDEO (F) DIKhan/Kulachi
3. Officials Concerned.
4. Govt: Pleader



DISTRICT EDUCATION OFFICER
(FEMALE)DERA ISMAIL KHAN

OFFICE OF THE SUB-DIVL: EDUCATION OFFICER (FEMALE) D. I. KHAN

ASD (F) (C)
Endst: No: 347-48
Copy to the:-

Dated DIKhan the 11/3 /2016.

- 1-2). Headmistress GGPS, Islamia Colony and Zil-e-Hasnain is hereby directed to compliance the order.
- 3). DEO(F)DIKhan.


SUB-DIVL: EDUCATION OFFICER
(FEMALE) D. I. KHAN.

①



BEFORE THE HON'BLE KP SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR

Sr. App: No. 469 of 2015

Mst: Farah Naz W/O Syed Ijaz Hussain Shah, Head Mistress GGPS Islamia Colony, D.I.Khan R/O Molana Shoaib Street Eidgah Kalan, Teh: & Distt: D.I.Khan.....Petitioner

VERSUS

K.W.F. Province
Service Tribunal
Diary No. 527
Dated 9-5-20

1. Govt: of KPK through Secretary Education, Peshawar.
2. Director Education (E&SE) KPK, Peshawar.
3. Deputy Director (E&SE) KPK, Peshawar.
4. Executive District Officer, (E&SE), D.I.Khan.
5. District Education Officer (Female), (E&SE), D.I.Khan.
6. Mst: Shazia Nawaz SDEO, (E&SE), D.I.Khan.
7. Mst: Samina Shehnaz, ASDEO, (E&SE), D.I.Khan.
8. Mst: Nasreen Akhtar, R/O Usman Ghani Street, GGPS Islamia Colony, D.I.Khan.....Respondents.

**APPEAL U/S 4 SERVICE TRIBUNAL ACT 1973,
AGAINST THE ORDER OF RESPONDENT NO.5
WHEREBY HE TRANSFERRED THE APPELLANT
VIDE OFFICE ORDER Endst; No.4851-54,
DATED: 26-05-2014, BE DECLARED AS ILLEGAL,
AGAINST THE SPIRIT OF LAW, FAKE, AND
BOGUS, THEREFORE IN EFFECTIVE UPON THE
RIGHTS OF THE PETITIONER AND
RESPONDENT NO.2 WHEREBY HE DID NOT
RESPOND TO THE DEPARTMENTAL OF
APPELLANT.**

Filed to the
Registrar
21/5/15

Handwritten signature

ATTESTED

Handwritten signature
EXAMINER
Khyber Pakhtunkhwa
Service Tribunal,
Peshawar



169/15

26.01.2016

Counsel for the appellant, Mr. Farhaj Sikandar, GP with Mst. Azra Bibi, DEO (F) D.I.Khan for the official respondents, counsel for private respondent No. 8 present and wakalatnama also present on file. SDEO (F) D.I.Khan is on school visit therefore, unable to attend the Tribunal to-day. On the other hand it has been stressed by the learned counsel for the appellant that despite order by the DEO the SDEO is not paying salary to the appellant. Notice be issued to SDEO (F) D.I.Khan as to why her own salary may not be attached for such non-compliance. In the meanwhile it was also stated by the DEO (F) that the matter may be kept pending for a while as promotions are going on in the department and hopefully both the issues of transfer as well as salary of the appellant and private respondent No. 8 may be resolved. Being reasonable contention, the matter is adjourned for the next date.

also

The learned counsel for the appellant submitted that the appellant was transferred to GGPS Islamia Colony against the post of private respondent No.8. That the said order was revisited vide impugned order dated 26.05.2014 without observing the tenure policy. It was further submitted that the appellant is regularly working since February, 2015 and she has not relinquished charge to private respondent No.8. It was further submitted that the impugned order is the result of political interference. Points raised need consideration. The appeal is admitted for regular hearing subject to all legal objections. The appellant is directed to deposit security and process fee within 10 days. To come up for progress report and written reply on 23.2.2016 at camp court, D.I.Khan. In the meanwhile status quo be maintained.

Appellant Deposited Security & Process Fee

Certified to be true copy

EX. CHIEF
Khyber Pakhtunkhwa
Service Tribunal,
Peshawar

Sd/-
Member
Camp Court
D.I. Khan



OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER
(FEMALE) DERA ISMAIL KHAN

Tel: 0966-9280133

Fax: 0966-9280444

Most Urgent Being Court Matter

No 1272 /Legal Branch
Dated D I Khan the 09-02-2016

To


The Sub Divisional Education Officer,
(Female), D I Khan.

Subject: COMPLIANCE COURT ORDERS

Memo:

With reference to the appeal No. 469 of 2015 dated 26/01/2016.

Enclosed find herewith the attested (photocopy) of the orders of the Honourable KPK Service Tribunal Peshawar, Camp Court D I Khan for compliance. You are hereby strictly directed to obey the orders of the Honourable Court in letter and spirit so to avoid any legal complication and report to the office of the undersigned immediately.



DISTRICT EDUCATION OFFICER
(FEMALE) DERA ISMAIL KHAN

Endst:No. 1273-75

Dated DIKhan the 09-02-16

Copy to the: -

1. Registrar Service Tribunal D I Khan
2. PA to Director E & SE Deptt KPK Peshawar
3. District Government Pleader D I Khan


DISTRICT EDUCATION OFFICER
(FEMALE) DERA ISMAIL KHAN



OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER (FEMALE)
DERA ISMAIL KHAN

ADJUSTMENT ORDER:

Incompliance of the order of honourable Service Tribunal Peshawar camp Court at DIKhan No 469/15 Dated 26.01.2016. the following adjustment of PSHT are hereby ordered in the best interest of public service with immediate effect.

S. NO	NAME & DESIGNATION	FROM	TO	REMARK
1	MST: FARAH NAZ PSHT BPS -15	GGPS ISLAMIA COLONY	GGPS ISLAMIA COLONY	Work as usual
2.	MST: NASREEN AKHTAR PSHT BPS - 15	GGPS ISLAMIA COLONY	GGPS ZIL - E- HASNAIN	VICE NO 3
3	MST: SHUGFTA NAHEED PSHT BPS - 15	GGPS ZIL - E- HASNAIN	GGPS KHOWAR	BACK TO HER PARENT SCHOOL

- Note: 1. Charge report should be sent to all concerned.
2. NO TA/DA is allowed.


Sd/-
DISTRICT EDUCATION OFFICER
(FEMALE)DERA ISMAIL KHAN

Endst: No 1927-30

Dated DIKhan the 22-02- /2016

Copy to the:

1. District Account Officer DIKhan
2. SDEO (F) DIKhan/Kulachi
3. Officials Concerned.
4. Govt: Pleador


DISTRICT EDUCATION OFFICER
(FEMALE)DERA ISMAIL KHAN

**BEFORE THE HONOURABLE KP SERVICE
TRIBUNAL, PESHAWAR**

Service Appeal No. 469/2015

Mst. Farah Naz..... Petitioner

Versus

Government of KPK & others..... Respondents

SERVICE APPEAL

Subject: WRITTEN REPLY ON BEHALF RESPONDENT NO. 8
(Nasreen Akhtar)

Respected Sir,

Respondent No. 8 humbly submits and replies the para wise contents of the appeal of the appellant as follows.

PRELIMINARY OBJECTIONS:

1. That the appellant has got no cause of action and locus standi.
2. That the appellant has not come to this tribunal with clean hands.
3. That the appellant is estopped to sue due to her own conduct.
4. That the appellant has concealed the real facts from this Honourable Tribunal.
5. That the appeal is not maintainable in its present form.
6. That the appeal is barred by law.
7. That the appeal of the appellant is hit by the provisions of limitation act and on the ground of limitation, the appeal of the appellant is liable for rejection.
8. That the replying respondent is entitled to receive special compensatory costs from the appellant.
9. That the appeal of the appellant is misfit for joinder and non-joinder of the necessary parties.

REPLY ON FACTS

- 1) That para #1 of the appeal of the appellant relating to his appointment as a school teacher pertains to the record, while rest of the para is incorrect because the non-obeying of the orders of the highups by the appellant is very much apparent from the documents annexed by the appellant in her appeal. Moreover, appellant has tried to comment over her performance for which the replying respondent is compelled to say only, "**self recommendations are no recommendations**".
- 2) That para No. 2 of the appeal of the appellant totally pertains to the record and needs no detailed reply.
- 3) That para #3 of the appeal of the appellant also pertains to the record. Moreover, the handing over the charge to the appellant as head teacher was to the extent of the handing over the charge instead promotion and the claim of the appellant as head teacher is baseless because on the letter dated 30/08/2014 and 19/09/2014 she cannot claim herself as Head Teacher as a matter of right.
- 4) That para #4 of the appeal of the appellant is totally incorrect because no doubt the respondent No. 8 was transferred and posted to Govt. Girls Primary School Islamia Colony D.I.Khan as head teacher and the letter dated 26/02/2014 for the postings of the appellant was stood cancelled which means that the appellant was again reposted to GGPS Zil-e-Hasnain D.I.Khan and the replying respondent was ordered to report at GGPS Islamia Colony, the original letter dated 26/05/2014 bearing No. 4851-54 is already annexed by the appellant with her appeal as **Annexure-I**. So in the light of the letter dated 26/05/2014, the appellant does not have any locus standi and cause of action.
- 5) That para #5 of the appeal of the appellant is totally incorrect and not in accordance with the facts and law because the letter on the basis of which the appellant has tried to conceal the realities is not in existence and the various applications alleged by the appellant against respondent No. 8 (replying respondent) are ineffective over the rights of the replying respondent.
- 6) That para #6 of the appeal is incorrect because the **Annexure-D** of the appeal is manipulated by the appellant and the actual letter is which

is already annexed by the appellant with her appeal as Annexure-I and it was incumbent upon the appellant to comply with the actual orders i.e. **Annexure-I** of her own appeal for which appellant did not.

- 7) That para #7 of the appeal of the appellant is incorrect. The appellant has tried to put mud over the respondents for which the law does not permit and mere publications cannot confer any rights to anyone by doing such like tactics.
- 8) That para #8 of the appeal is totally incorrect. The departmental appeal of the appellant by itself is not in accordance with law and is time barred and on this score too the appeal of the appellant is liable for dismissal.
- 9) That para #9 of the appeal of the appellant is also pertaining to the record and it is necessary to mention here that the show cause notice has already been issued to the appellant for her misconduct by not obeying the orders of the official respondents. Copy of the letter dated 19/08/2015 issued against the appellant is attached herewith for ready reference.
- 10) That para #10 of the appeal of the appellant purely pertains to the record and it is also safely said that the said order is also in accordance with law rules and policies because according to the policies issued by the official respondents are that the senior amongst the school teachers shall hold the post of Head Teacher as Senior and appellant is not ready to comply with the same and if this Honourable Tribunal will peruse the seniority list issued by official respondents for appellant and respondent no. 8 both, the replying respondent No. 8 is placed at seniority # 75 while the appellant is placed at serial No. 512 and this fact is also very much clear from letter already annexed by the appellant as **Annexure-L**.
- 11) That para #11 of the appeal of the appellant pertains to record and also showed that how much appellant is non serious towards her duties and her seniors orders.
- 12) No reply.

REPLY ON GROUNDS

- a. Incorrect. Official respondents have complete jurisdiction and powers to transfer and post their teachers at any place and such withholding of transfer cannot be claimed as matter of right.
- b. Incorrect. The posting of respondent No. 8 (replying respondent) is totally on merit and same was also in accordance with rules and policies and being too much senior from the appellant, the replying respondent was very much competent and eligible to be posted at the place where now she has been posted and serving.
- c. Incorrect. No irregularity was committed by the official respondent. The appellant is trying to bypass the rules, regulations and policies for which she is not entitled.
- d. Incorrect. The official respondents are very much competent to transfer and post any civil servant at any time for the public interest.
- e. Incorrect. Impugned order is having no legal lacunas.
- f. Incorrect. Law does not require for serving of any notice earlier to the posting and transfer of any civil servant.
- g. Incorrect. When the appeal of the appellant by itself is illegal then she cannot claim any protection of law from this Honourable forum.
- h. No reply.

In wake of submissions made above, this Honourable Tribunal is humbly requested to dismiss the appeal of the appellant with costs throughout and any other relief which could be extended under the law in favour of replying respondent may please be allowed to her.

Date: 29/12/2015

Your Humble Respondent#8,

Nasreen Akhtar
Nasreen Akhtar
Through counsel

Burhan Latif Khaisori
Burhan Latif Khaisori
Advocate High Court

**BEFORE THE HONOURABLE KP SERVICE
TRIBUNAL, PESHAWAR**

Service Appeal No. 469/2015

Mst. Farah Naz..... Petitioner

Versus

Government of KPK & others..... Respondents

SERVICE APPEAL

VERIFICATION


Verified this _____ day of December, 2015 at Dera Ismail Khan that the contents of this written reply are true and correct and that nothing has been concealed from this Honourable Court.

Nasreen Akhtar
Nasreen Akhtar

COUNTER AFFIDAVIT

I, **Nasreen Akhtar**, do hereby solemnly affirm & declare on oath that the contents of this written reply are true & correct to the best of my knowledge and belief, nothing has been concealed from this Honourable Court and contents of the service appeal and the affidavit thereon are false.

Nasreen Akhtar
Deponent



28/12/15